

Dated: 22 September 2023

Media Coverage

**“SUPREME COURT UPHOLDS CCP'S ENQUIRY & INFORMATION
GATHERING POWERS”**

Gathering of info from oil & ghee cos

SC upholds statutory powers of CCP

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: There is no restriction on the Competition Commission of Pakistan's general regulatory powers to call for information from cooking oil and ghee companies.

In a historic judgment, the Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP). The powers relate to gathering of information and conducting of enquiries. A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik passed the judgement.

The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's general regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information.

The apex court has further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an enquiry. The court stated that initiation of an enquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under

Section 30 of the Act.

In 2020, the CCP had inquired cooking oil and ghee companies for information about ghee and cooking oil prices. Dalda Foods was the sole entity to challenge in the Islamabad High Court. Dalda asserted that CCP did not possess sufficient grounds to justify the enquiry or the call for information. The Islamabad High Court had set aside CCP's call for information letters and the initiation of enquiry. The high court had imposed extraordinary requirements on the exercise of CCP's regulatory and enquiry powers. The CCP had challenged the decision of the High Court before the Supreme Court of Pakistan.

CORPORATE CORNER

CCP gets back enquiry powers

ISLAMABAD. In a historic judgement, the Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP). The powers relate to gathering information and conducting enquiries. A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah and Justice Ayesha A Malik passed the judgement. The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's general regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information. The apex court further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an enquiry. The court stated that initiation of an enquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under Section 30 of the Act. PRESS RELEASE

Supreme court upholds CCP's enquiry, information gathering powers

ISLAMABAD (AGENCIES): In a historic judgment, the Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP). The powers relate to gathering of information and conducting of enquiries. A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik passed the judgement, said a press release issued here. The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's general regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information. The apex court has further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an enquiry. The court stated that initiation of an enquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under Section 30 of the Act.

SC upholds CCP's enquiry & information gathering powers

STAFF REPORTER

ISLAMABAD

In a historic judgment, the Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan. The powers relate to gathering of information and conducting of inquiries.

A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik passed the judgement.

The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's gen-

eral regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information.

The apex court has further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an enquiry. The court stated that initiation of an enquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under Section 30 of the Act.

Continued on
PAGE 07



SC upholds CCP's enquiry ...

From Page 1

In 2020, CCP had inquired cooking oil and ghee companies for information about ghee and cooking oil prices. Dalda Foods was the sole entity to challenge in the Islamabad High Court. Dalda asserted that CCP did not possess sufficient grounds to justify the enquiry or the call for information. The Islamabad High Court had set aside CCP's call for information letters and the initiation of enquiry. The high court had imposed extraordinary requirements on the exercise of CCP's regulatory and enquiry powers.

CCP had Challenged the decision of the High Court before the Supreme Court of Pakistan.

While allowing the CCP's appeal the Supreme Court has set aside these requirements, which included the requirement to provide detailed reasoning to an undertaking when initiating an enquiry and to pass a reasoned order in this regard. Hence the stance and actions of the CCP were upheld in the historic and landmark judgement of the Supreme Court.

Supreme Court upholds CCP enquiry

DNA

ISLAMABAD: In a historic judgment, the Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP). The powers relate to gathering of information and conducting of enquiries. A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik passed the judgement.

The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's general regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information.

The apex court has further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an enquiry. The court stated that initiation of an enquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under Section 30 of the Act. In 2020, CCP had inquired cooking oil and ghee companies for information about ghee and cooking oil prices. Dalda Foods was the sole entity to challenge in the Islamabad High Court. Dalda asserted that CCP did not possess sufficient grounds to justify the enquiry or the call for information. The Islamabad High Court had set aside CCP's call for information letters and the initiation of enquiry.

Supreme Court upholds CCP's Enquiry & Information Gathering Powers

 **Commerce Desk**

ISLAMABAD: In a historic judgment, the Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP). The powers relate to gathering of information and conducting of enquiries. A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik passed the judgement.

The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's general regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information.

The apex court has further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an enquiry. The court stated that initiation of an enquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under Section 30 of the Act.

In 2020, CCP had inquired cooking oil and ghee companies for information about ghee and cooking oil prices. Dalda Foods was the sole entity to challenge in the Islamabad High Court. Dalda asserted that CCP did not possess sufficient grounds to justify the enquiry or the call for information. The Islamabad High Court had set aside CCP's call for information letters and the initiation of enquiry. The high court had imposed extraordinary requirements on the exercise of CCP's regulatory and enquiry powers. CCP had challenged the decision of the High Court before the Supreme Court of Pakistan.

While allowing the CCP's appeal the Supreme Court has set aside these requirements, which included the requirement to provide detailed reasoning to an undertaking when initiating an enquiry and to pass a reasoned order in this regard. Hence the stance and actions of the CCP were upheld in the historic and landmark judgement of the Supreme Court.

کمپنیشن کمیشن کے انکوائریز کے قانونی اختیارات برقرار

معلومات طلب کرنے کیلئے کمیشن کے اختیارات پر پابندی نہیں: سپریم کورٹ کا فیصلہ

جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل تین رکنی بنچ نے فیصلہ سنایا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں کمیشن کے (باقی صفحہ 5 نمبر 29)

برقرار

29

معلومات اکٹھا کرنے اور انکوائریز کے قانونی اختیارات کو متفقہ طور پر برقرار رکھا ہے۔ سی سی پی کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل تین رکنی بنچ نے سنایا جس کے مطابق کمپنیشن ایکٹ کی دفعہ 36 کے تحت معلومات طلب کرنے کے لئے کمیشن کے جنرل ریگولیشنری اختیارات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس فیصلے نے کاروباری اداروں پر واضح ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے کہ وہ معلومات کی فراہمی کے لئے سی سی پی کے احکامات پر من و عن عمل کریں۔

سپریم کورٹ، سی سی پی کے انکوائری کے اختیارات برقرار

انکوائری سے پہلے وجوہات یا استدلال فراہم کرنا ضروری نہیں

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بنچ نے ایک تاریخی فیصلے میں کمپینیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) کے قانونی اختیارات کو متفقہ طور پر برقرار رکھا ہے۔ یہ

اختیارات معلومات اکٹھا کرنے اور انکوائری کے انعقاد سے متعلق ہیں۔ یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل تین (باقی صفحہ 6 بقیہ نمبر 38)

اوصاف سپریم کورٹ 38

رکنی بنچ نے سنا یا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کمپینیشن ایکٹ کی دفعہ 36 کے تحت معلومات طلب کرنے کے لئے کمیشن کے جنرل ریگولیشنری اختیارات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس فیصلے نے کاروباری اداروں پر واضح ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے کہ وہ معلومات کی فراہمی کے لئے سی سی پی کے احکامات پر من و عن عمل کریں۔ عدالت عظمیٰ نے نذیر قرار دیا کہ کمیشن کو ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت انکوائری شروع کرنے سے پہلے کوئی تفصیلی وجوہات یا استدلال فراہم کرنا ضروری نہیں ہے۔ عدالت نے یہ نوٹ کیا کہ ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت انکوائری شروع کرنا کوئی منفعی عمل نہیں ہے بلکہ حقائق تلاش کرنے کی کوشش ہے اور یہ سیکشن 30 کے تحت جاری شوکانز نوٹس کی کارروائی سے مختلف ہے۔ سال 2020 میں سی سی پی نے کوکنگ آئل اور گھی بنانے والی کمپنیوں سے سچی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں سے متعلق معلومات طلب کی تھیں۔ صرف ڈالڈا فوڈ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ سی سی پی کے پاس معلومات طلب کرنے اور انکوائری کے جواز کے لئے معتول وجوہات نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی سی پی کے کال فائر انفارمیشن کے لئے لکھے گئے خطوط اور انکوائری شروع کرنے کے مطالبہ کو مسترد کر دیا تھا اور سی سی پی کے ریگولیشنری و انکوائری اختیارات کے استعمال پر غیر معمولی شرائط عائد کر دی تھیں۔

سپریم کورٹ کی کمیٹی کی تشکیل کے تحت معلومات طلب کرنے کے لئے کمیشن کے جنرل ریگولیٹری اختیارات پر کوئی پابندی نہیں

کمیٹی کی تشکیل کے تحت معلومات طلب کرنے کے لئے کمیشن کے جنرل ریگولیٹری اختیارات پر کوئی پابندی نہیں

ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت انکوائری شروع کرنا کوئی منفی عمل نہیں ہے بلکہ حقائق تلاش کرنے کی کوشش ہے، عدالت عظمیٰ

اسلام آباد (نامہ نگار خصوصی) سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بنچ نے ایک تاریخی فیصلے میں اختیارات معلومات اکٹھا کرنے اور انکوائریز کے انعقاد سے متعلق ہیں۔ یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل تین رکنی بنچ نے سنایا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق (باقی صفحہ 4 بقیہ نمبر 21)

21

کمیٹی کی ایکٹ

بقیہ

کمیٹی کی ایکٹ کی دفعہ 36 کے تحت معلومات طلب کرنے کے لئے کمیشن کے جنرل ریگولیٹری اختیارات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس فیصلے نے کاروباری اداروں پر واضح ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے کہ وہ معلومات کی فراہمی کے لئے سی سی پی کے احکامات پر من و عن عمل کریں۔ عدالت عظمیٰ نے مزید قرار دیا کہ کمیٹی کو ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت انکوائری شروع کرنے سے پہلے کوئی تفصیلی وجوہات یا استدلال فراہم کرنا ضروری نہیں ہے۔

سی سی پی انکوائری، معلومات اکٹھا کرنے کے اختیارات کا فیصلہ برقرار

فیصلہ سابق چیف جسٹس عمر عطا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل بنچ نے سنایا

اسلام آباد (نئی بات رپورٹ) سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بنچ نے ایک تاریخی فیصلے میں کمپینشن کمشن آف پاکستان (سی سی پی) کے قانونی اختیارات کو منفقہ طور پر برقرار رکھا ہے۔ یہ اختیارات معلومات اکٹھا کرنے اور انکوائریز کے انعقاد سے متعلق ہیں۔ یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس عمر عطا ہندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل تین رکنی بنچ نے سنایا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کمپینشن ایکٹ کی دفعہ 36 کے تحت معلومات طلب کرنے کیلئے کمیشن کے جنرل ریگولیٹری اختیارات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس فیصلے نے کاروباری اداروں پر واضح ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے کہ وہ معلومات کی فراہمی کے لئے سی سی پی کے احکامات پر من و عن عمل کریں۔

مسابقتی کمیشن کو انکوائری سے روکنے کے عدالتی احکامات معطل

سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سی سی پی کے قانونی اختیارات کو برقرار رکھا

اسلام آباد (آن لائن) سپریم کورٹ نے مسابقتی کمیشن کو انکوائری سے روکنے کے حوالے سے ہائیکورٹ کے احکامات کو معطل کرتے ہوئے مسابقتی کمیشن کے قانونی اختیارات کو برقرار رکھا ہے۔ سی سی پی کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے

تین رکنی بینچ نے ایک تاریخی فیصلے میں مسابقتی کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) کے معلومات اکٹھا کرنے اور انکوائریز کے انعقاد کے اختیار کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مسابقتی کمیشن ایکٹ کی (باقی صفحہ 4 بقیہ نمبر 24)

24

سپریم کورٹ

بقیہ

دفعہ 36 کے تحت معلومات طلب کرنے کیلئے کمیشن کے جہل ریگولیشنز اختیار پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس فیصلے نے کاروباری اداروں پر واضح ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے کہ وہ معلومات کی فراہمی کیلئے سی سی پی کے احکامات پر عمل کریں۔ عدالت عظمیٰ نے مزید فرارڈ یا کمیشن کو ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت انکوائری شروع کرنے سے پہلے کوئی تفصیلی وجوہات یا استدلال فراہم کرنا ضروری نہیں ہے۔ عدالت نے یہ نوٹ کیا کہ ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت انکوائری شروع کرنا کوئی منفی عمل نہیں ہے بلکہ حقائق تلاش کرنے کی کوشش ہے اور یہ سیکشن 30 کے تحت جاری شوکاز نوٹس کی کارروائی سے مختلف ہے سی سی پی کے مطابق سال 2020 میں سی سی پی نے کوکنگ آئل اور مٹی بنانے والی کمپنیوں سے مٹی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں سے متعلق معلومات طلب کی تھیں، جس پر ڈالڈا فوڈ نے اسلام آباد ہائیکورٹ میں چیلنج کیا کہ سی سی پی کے پاس معلومات طلب کرنے اور انکوائری کے جواز کیلئے معقول وجوہات نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائیکورٹ نے سی سی پی کے کال فار انفارمیشن کیلئے لکھے گئے خطوط اور انکوائری شروع کرنے کے مطالبہ کو مسترد کر دیا تھا اور سی سی پی کے ریگولیشنز و انکوائری اختیارات کے استعمال پر غیر معمولی شرائط عائد کر دی تھیں، جس کے بعد سی سی پی نے ہائیکورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انکوائری شروع کرتے وقت کسی کاروباری ادارے کو تفصیلی استدلال فراہم کرنے اور اس سلسلے میں معقول حکم دینے جیسی شرائط والے تقاضوں کو رد کر دیا ہے۔

روزنامہ آئین پشاور

www.dailyaen.com.pk

Member APNS-CPNE

آئین اور قانون کی بالادستی کا علمبردار

DAILY AEN PESHAWAR

Chief Editor:
Rahatullah Khan

روزنامہ آئین پشاور

چیف ایڈیٹر
راحت اللہ خان

ABC
CERTIFIED

سنہ 8

جلد 34 | جمع المبارک 22 ستمبر 2023ء | 5 ربیع الاول 1445ھ | 17 سونہ | 20 قیمت | شمارہ 193

سی سی پی کے انکوائری اور معلومات اکٹھا کرنے کے اختیارات برقرار

فیصلہ سابق چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل بنچ نے سنایا تھا

اسلام آباد (آئین نیوز) سپریم کورٹ آف پاکستان نے کئی دفعہ متفقہ طور پر برقرار رکھا ہے۔ یہ اختیارات معلوما کے تین رکنی بنچ نے ایک تاریخی فیصلے میں کمیشن ت اکٹھا کرنے اور انکوائریز کے انعقاد سے متعلق ہیں گیشن آف پاکستان (سی سی پی) کے قانونی اختیار فیصلہ سابق چیف جسٹس (باقی صفحہ 7 بقیہ نمبر 5)

Associated Press of Pakistan

22 September 2023 | Online

Supreme court upholds CCP's enquiry, information gathering powers

Supreme Court

ISLAMABAD, Sep 21 (APP): In a historic judgment, the Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP). The powers relate to gathering of information and conducting of enquiries. A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik passed the judgement, said a press release issued here. The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's general regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information.

The apex court has further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an enquiry.

The court stated that initiation of an enquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under Section 30 of the Act. In 2020, CCP inquired about cooking oil and ghee companies for information about ghee and cooking oil prices. Dalda Foods was the sole entity to challenge in the Islamabad High Court. Dalda asserted that CCP did not possess sufficient grounds to justify the enquiry or the call for information. The Islamabad High Court had set aside CCP's call for information letters and the initiation of enquiry. The high court had imposed extraordinary requirements on the exercise of CCP's regulatory and enquiry powers. CCP had Challenged the decision of the High Court before the Supreme Court of Pakistan. While allowing the CCP's appeal the Supreme Court has set aside these requirements, which included the requirement to provide detailed reasoning to an undertaking when initiating an enquiry and to pass a reasoned order in this regard. Hence the stance and actions of the CCP were upheld in the historic and landmark judgement of the Supreme Court.

<https://www.app.com.pk/business/supreme-court-upholds-ccps-enquiry-information-gathering-powers/>

Pro Pakistani

22 September 2023 | Online

Apex Court Upholds Statutory Powers of Competition Commission of Pakistan

By ProPK Staff |

The Supreme Court of Pakistan has unanimously upheld the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP). The powers relate to gathering information and conducting inquiries. A three-member bench comprising former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik passed the judgement.

The Supreme Court declared that there is no restriction on CCP's general regulatory powers to call for information under Section 36 of the Competition Act, 2010. It has also stated a clear obligation on undertakings to fully comply with CCP's directives for the provision of information.

The apex court has further declared that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before commencing an inquiry. The court stated that initiation of an inquiry under Section 37 of the Act is not an adverse action. It is merely a fact-finding exercise distinct from show cause proceedings under Section 30 of the Act.

In 2020, CCP inquired cooking oil and ghee companies for information about ghee and cooking oil prices. Dalda Foods was the sole entity to challenge in the Islamabad High Court. Dalda asserted that CCP did not possess sufficient grounds to justify the inquiry or the call for information. The Islamabad High Court had set aside CCP's call for information letters and the initiation of inquiry. The High Court had imposed extraordinary requirements on the exercise of CCP's regulatory and inquiry powers. CCP had challenged the decision of the High Court before the Supreme Court of Pakistan.

While allowing the CCP's appeal the Supreme Court has set aside these requirements, which included the requirement to provide detailed reasoning to an undertaking when initiating an inquiry and to pass a reasoned order in this regard. Hence the stance and actions of the CCP were upheld in the judgement of the Supreme Court.

<https://propakistani.pk/2023/09/21/apex-court-upholds-statutory-powers-of-competition-commission-of-pakistan/>

Apex Court Upholds Competition Commission's Powers in Pakistan

Web Desk

The Supreme Court of Pakistan has unanimously affirmed the statutory powers of the Competition Commission of Pakistan (CCP) in gathering information and conducting inquiries. The three-member bench, including former Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Mansoor Ali Shah, and Justice Ayesha A. Malik, issued this ruling.

The Supreme Court has clarified that there are no restrictions on CCP's general regulatory authority to request information under Section 36 of the Competition Act, 2010. Undertakings are obliged to fully comply with CCP's directives for providing information.

Furthermore, the court has determined that CCP is not obligated to provide detailed reasoning before initiating an inquiry. The court emphasized that initiating an inquiry under Section 37 of the Act is not considered an adverse action but rather a fact-finding process separate from show cause proceedings under Section 30 of the Act.

In 2020, CCP initiated an inquiry into cooking oil and ghee companies regarding ghee and cooking oil prices. Dalda Foods was the sole entity that challenged CCP's actions in the Islamabad High Court. Dalda argued that CCP did not have sufficient grounds for the inquiry or the request for information. The Islamabad High Court had set aside CCP's requests for information and the initiation of the inquiry, imposing exceptional requirements on CCP's regulatory and inquiry powers. CCP subsequently challenged the High Court's decision in the Supreme Court of Pakistan.

The Supreme Court, in upholding CCP's appeal, has overturned these requirements, including the need to provide detailed reasoning to an undertaking when initiating an inquiry and to issue a reasoned order in this regard. Consequently, CCP's stance and actions were affirmed in the Supreme Court's judgment.

<https://newsguru.pk/apex-court-upholds-competition-commissions-powers-in-pakistan/>